



اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا کچھ ہے، تو تم چاہتے کہ تمہارا فاقہ اور ضرورت مندی اور بڑھ جائے

فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے، تو کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے یہ لوگ اصحابِ صفہ تھے یہاں تک کہ (ان کی حالت دیکھ کر) اعرابی لوگ کہتے: یہ لوگ پاگل ہیں جب آپ ﷺ نماز پڑھا چکے، تو ان کی طرف مڑ کر فرماتے: ”اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا کچھ (ثواب) ہے، تو تم چاہتے کہ تمہارا فاقہ اور ضرورت مندی اور بڑھ جائے“
[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگ نماز میں حالتِ قیام میں گر جاتے یہ زائد صحابہ، یعنی اہل صفہ تھے جو فقیر اور غریب تھے یہ کل ستر لوگ تھے کبھی کبھی کم ہوجاتے اور کبھی زیادہ یہ مسجد کے چبوترے پر رہتا کرتے تھے ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال یا اولاد تھی ان کے گرنے کی وجہ سے بعض دیناریں انہیں پاگل سمجھتے اس پر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تمہیں علم ہوتا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لئے کیا خیر محفوظ ہے، تو تمہیں یہ پسند ہوتا کہ تمہارا فاقہ یعنی تمہاری فقیری اور حاجت مندی اور بڑھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5825>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

